

کیا داماد کو بیوی کی فیملی کو خلافِ شرع کاموں سے روکنے کا حق ہے؟

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کی شادی سارہ سے ہوئی ہے اور سارہ کی فیملی میں کچھ عرصہ بعد کچھ خلافِ شرع کام ہونا شروع ہو گئے۔ کیا زید کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ خود سارہ کی فیملی کے لوگوں کو ایسے کام کرنے سے روکے یا وہ سارہ کے ذریعے کہلو کر روکے۔ اور کیا شرعی معاملے کے علاوہ زید کو حق حاصل ہے کہ سارہ کی فیملی کے بقیہ معاملات پر گفتگو کرے۔

سائل: زاہد فرام انڈیا

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

اگر آپ کی بات سنی جائے گی تو آپ پر واجب ہے کہ انہیں گناہ سے روکنے کی کوشش کریں اور امر بالمعروف کا فریضہ ادا کریں کیونکہ خلافِ شرع کام کو روکنا ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کی بات سنی جاتی ہو جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے۔ "إِنَّمَا يَجِبُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ يَسْتَمِعُونَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ" نیکی کا حکم کرنا اس پر واجب ہے جب وہ جانتا ہو کہ وہ لوگ اس کی بات مان لیں گے ایسے ہی فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع عشر فی الغناء... إلخ، ج ۵، ص ۳۵۲)

اور ایسے ہی بہار شریعت میں ہے کہ اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہ ان سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آجائیں گے تو امر بالمعروف واجب ہے اس کو باز رہنا جائز نہیں۔ (ج 3 حصہ 16 ص 615)

اگر آپ کی بات نہیں مانی جائے گی مگر سارہ کی بات سنی جاتی ہے تو سارہ کے ذریعے فیملی کو سمجھانے کی کوشش کی جائے بلکہ اس صورت میں سارہ پر واجب ہے کہ وہ فیملی کو گناہ کے کام سے روکے۔

اور شرعی معاملات کے علاوہ دنیاوی معاملات میں زید سارہ کی فیملی کو مشورے دے سکتا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ ان کے فائدہ کی بات کہہ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن سارہ کی فیملی کا دنیاوی معاملات سے متعلقہ اس کی بات ماننا واجب نہیں ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date: 31-10-2017

DOES A HUSBAND HAVE THE RIGHT TO STOP HIS IN-LAWS FROM DOING THINGS AGAINST THE SHARIAH

QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: Zaid married Sarah, and there has started some anti-Shariah trend in Sarah's family lately. Does Zaid hold the right to stop Sarah's family from indulging in anti-Shariah activities or alternatively, influence Sarah to stop it? Does Zaid have right to intervene into other non-Shariah related matters in Sarah's family?

Questioner: Zahid from India

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بعون الملِك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

If your opinion is heard then it is necessary (wajib) upon you to try and stop them from committing these sinful vices and thus act upon the duty of directing towards righteousness, for it is necessary upon every authoritative Muslim; as it has been mentioned in Fatawa Hindiyyah:

إِنَّمَا يَجِبُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ يَسْتَمِعُونَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانٍ

Directing towards righteousness is necessary when one knows that the other party will take heed; as declared in Fatwata Qaadhi Khan.

[Al-Fatawa al-Hindiyyah vol. 5, p. 352]

Similarly, it is cited in Bahare Shari'at that if he has a strong feeling that if he says they will be convinced and refrain from doing wrong then directing towards righteousness will become necessary. It's not permissible for him to hold back.

[Bahare Shari'at vol. 3, part 16, p. 615]

If your opinion will not be heard but Sarah's opinion will be heard then the effort should be made to convince the family through Sarah. In fact, it is necessary upon Sarah to stop the family from vices in this case.

If Zaid can intervene in other worldly, non-Shariah related matters and can impart useful advice in good faith then there is no harm in it, aside from the fact that Sarah's family is not obligated to adhere to his advice in worldly affairs.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Musjidul Haq Research Department (www.musjidulhaq.com)